

محترم/محترمہ ٹیکس دہندہ:

انکم ٹیکس کے ریکارڈز سے پتہ چلتا ہے کہ آپ داخلی ریونیو سروس (Internal Revenue Service, IRS) کی جانب سے 2017 کے حاصل کردہ انکم ٹیکس کریڈٹ (Earned Income Tax Credit, EITC) کے لیے اہل ہو سکتے/سکتی ہیں۔ آپ نے اپنے 2017 کے وفاقی ٹیکس ریٹرن میں اجرتوں یا ذاتی کاروبار سے ہونے والی جو آمدنی بتائی ہے اس کی بنیاد پر اور اس بنیاد پر آپ اہل ہو سکتے/سکتی ہیں، کہ آپ نے زیر کفالت افراد کے لیے کلیم کیا ہے یا نہیں۔

پہلے، آپ کو www.irs.gov/EITC ملاحظہ کر کے یہ چیک کرنا چاہیئے کہ کیا آپ وفاقی EITC کے لئے اہل بھی ہیں۔ اس کے بعد، لف شدہ فارمز مکمل کریں اور انہیں لف شدہ پتہ کے حامل لفافے میں ڈال کر 15 اپریل 2021 تک بھجوا دیں۔

- اگر آپ نے زیر کفالت بچوں کے لیے کلیم کیا ہے تو آپ کو ایک لف شدہ شیڈول EIC ملے گا۔ فارم کے بالائی حصے پر اپنا نام اور سوشل سیکیورٹی نمبر لکھنا نہ بھولیں۔
- جزوی طور پر مکمل شدہ فارم 1040X پر، اپنا سوشل سیکیورٹی نمبر لکھیں اور، اگر آپ نے مشترکہ طور پر فائل کیا ہے تو اپنے/اپنی شریک حیات کا سوشل سیکیورٹی نمبر بھی لکھیں۔
- 1040X فارم پر دستخط کریں اور، اگر آپ نے مشترکہ طور پر فائل کیا ہے، تو اس پر اپنے/اپنی شریک حیات کے دستخط بھی کروائیں۔

IRS سے 15 اپریل 2021 تک اپنے کریڈٹ لازماً کلیم کر لیں، بصورت دیگر اس کی میعاد ختم ہو جائے گی۔

براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ آپ ریاستی اور شہری حاصل کردہ انکم ٹیکس کریڈٹس (EITC) کے لیے بھی اہل ہو سکتے/سکتی ہیں۔ اگر ایسا ہوا، تو ریاست نیو یارک اگلے چند ہفتوں کے دوران آپ کو مطلع کرے گی۔ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اگر اس نوٹس کے متعلق آپ کے کوئی سوالات ہوں، تو براہ کرم 311 پر کال کریں۔ نیویارک شہر کے باہر سے، یا ریلے سروس کے لیے، 639-9675 (212) پر کال کریں۔

مخلص،

NYC محکمہ مالیات (NYC Department of Finance)

P. S. اگر آپ کو اس سال اپنے ٹیکسز میں مدد کی ضرورت ہے، تو آپ NYC Free Tax Prep پروگرام کے لئے اہل ہو سکتے ہیں۔ مزید معلومات حاصل کرنے اور اپنا قریبی مرکز تلاش کرنے کے لئے www.nyc.gov/taxprep ملاحظہ کریں یا 311 پر کال کریں۔

حاصل شدہ انکم ٹیکس کریڈٹ
(Earned Income Tax Credit, EITC)
کے بارے میں اکثر پوچھے جانے والے سوالات



1. مجھے یہ معلومات کیوں موصول ہو رہی ہیں؟
ہمیں لگتا ہے کہ آپ اپنے 2017 کے انکم ٹیکس ریٹرنز (income tax returns) کے جائزے کی بنیاد پر حاصل شدہ انکم ٹیکس کریڈٹ کے لئے اہل ہو سکتے/سکتی ہیں۔ چونکہ آپ نے کوئی کریڈٹ وصول نہیں کیا، لہذا آپ IRS سے ریفرنڈ ادائیگی کی درخواست کرنے کے لئے 2017 کا ترمیم کردہ ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتے/سکتی ہیں۔
2. حاصل کردہ انکم ٹیکس کریڈٹ کیا ہے؟
حاصل کردہ انکم ٹیکس کریڈٹ حکومت کی طرف سے اہل ٹیکس دہندگان کے لئے ریفرنڈ ادائیگی ہے۔ یہ وظیفہ وصول کرنے کے لئے لازم ہے کہ آپ نے 2017 کے کسی حصے کے دوران تنخواہوں یا ذاتی کاروبار سے آمدنی کمائی ہو۔ IRS، نیو یارک کی ریاست اور نیو یارک شہر سبھی اہل ٹیکس دہندگان کو EITC کی پیشکش کرتے ہیں۔
3. کون اہل قرار پاتا ہے؟
آپ EITC کے اہلیت کے تقاضے www.irs.gov/eitc پر دیکھ سکتے ہیں۔
4. کیا اہل ہونے کے لئے میرا صاحب اولاد ہونا ضروری ہے؟
نہیں۔ EITC غیر شادی شدہ اور بغیر بچوں والے خاندانوں کے لئے اس وقت تک دستیاب ہے جب تک آپ کی آمدنی \$15,010 (غیر شادی شدہ) یا \$20,600 (اکھٹے فائل کرنے والے، شادی شدہ) سے کم ہو اور آپ (یا آپ کا/کی شریک حیات) 2017 میں 25 سے 64 سال تک کی عمر کے ہوں۔
5. کیا میں دیگر سالوں کے لئے EITC وصول کر سکتا/سکتی ہوں۔
جی ہاں۔ اگر آپ نے ٹیکسز فائل کرتے ہوئے کریڈٹ کلیم نہیں کیا، تو آپ ترمیم کردہ وفاقی ٹیکس فارم 1040X فائل کر کے تین سال تک EITC کلیم کر سکتے/سکتی ہیں۔ یہ ڈاک آپ کو 2017 کا فارم مہیا کرتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے/سمجھتی ہیں کہ آپ اہل ہیں، تو آپ ابھی بھی ترمیم کردہ ریٹرن فائل کر کے 2018 اور 2019 کے کریڈٹ کلیم کر سکتے/سکتی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے/سمجھتی ہیں کہ آپ اہل ہیں، تو اپنا 2020 کا ٹیکس ریٹرن مکمل کرتے ہوئے EITC کلیم کرنا یاد رکھیں۔
6. میں ٹیکس سال 2017 کے لئے EITC کیسے کلیم کر سکتا/سکتی ہوں؟
محض لف شدہ خط میں درج کردہ بلٹ والے اقدامات پر عمل کریں۔
7. اگر میں اپنے ریاستی ٹیکس ریٹرن پر EITC کلیم کرنے میں ناکام رہا/رہی تو کیا ہو گا؟
اگر آپ ریاست یا/اور شہر کے EITC کریڈٹس کے اہل ہیں، تو نیو یارک ریاست کا محکمہ محصول کاری و مالیات (New York State Department of Taxation and Finance) اگلے چند ہفتوں کے اندر آپ سے رابطہ کر لے گا۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
8. میں وفاقی ٹیکس کی تیاری میں اضافی مدد کیسے حاصل کر سکتا/سکتی ہوں؟
نیویارک شہر میں، NYC Free Tax Prep پروگرام آپ کو اپنے ٹیکسز فائل کرنے میں اور اہم کریڈٹس کلیم کرنے میں مفت مدد فراہم کرے گا۔ مزید معلومات کے لئے اور یا اپنا قریبی مرکز تلاش کرنے کے لئے www.nyc.gov/taxprep ملاحظہ کریں یا 311 پر کال کریں۔ آپ نیویارک شہر میں یا اس سے باہر بھی مرکز تلاش کرنے کے لئے IRS کو 906-9887 (800) پر کال کر سکتے ہیں یا www.irs.gov ملاحظہ کر سکتے/سکتی ہیں۔
9. میں ریاستی ٹیکس کی تیاری میں اضافی مدد کیسے حاصل کر سکتا/سکتی ہوں؟
ریاستی ٹیکس کی تیاری کے اختیارات اور EITC، بشمول مراکز اور درکار دستاویزات کے بارے میں مزید معلومات کے لئے، 311 پر کال کریں اور "ٹیکس کی تیاری کے لئے مفت مدد" کی درخواست کریں۔ آپ www.nyc.gov/taxprep بھی ملاحظہ کر سکتے/سکتی ہیں۔